



سوال

(253) خطبہ سے مقصود کیا ہے؟

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

خطبہ سے مقصود کیا ہے؟

الجواب بعون الوهاب بشرط صحة السؤال

وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام على رسول اللہ، أما بعد!

خطبہ سے بالذات صرف وعظ و تذکیر مقصود ہے۔ ویسے سورۃ جمعہ میں ہے: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ** (الجمعة: 9) اس آیت شریفہ میں ”ذکر اللہ“ سے وعظ و تذکیر مراد ہے۔ جیسا کہ ابوہریرہ کی حدیث سے ظاہر ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: **«إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَقَفَّتِ الْمَلَائِكَةُ عَلَىٰ بَابِ الْمَسْجِدِ يَكْتُبُونَ الْأَوَّلَ فَلَاوَلَّ، وَالثَّانِي الْمَسْجِدَ كَتَبَتْهُ الْمَلَائِكَةُ يَوْمَئِذٍ يَنْدِي بِذَنبِهِ، ثُمَّ كَالَّذِي يَنْدِي بِذَنبِهِ يَنْفِرُ، ثُمَّ كُنْشًا، ثُمَّ دَجَاجَةً، ثُمَّ يَنْفِرُ، فَإِذَا خَرَجَ الْإِنَامُ طُوفُوا صُحُفَهُمْ، وَيُسْتَمْعُونَ الذِّكْرَ»**، فتح الباری ج 1 ص: 480 میں ہے: **”والمراد به أي بالذکر فی الخطبة من الوعظ وغيرها“**،

اور صحیح بخاری میں جابر بن عبد اللہ سے مروی ہے: **”جَاءَ رَجُلٌ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ النَّاسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَقَالَ: «أُصَلِّيتُ يَا فَلَانُ؟» قَالَ: لَا، قَالَ: «تُمْ فَارْكَعْ رَكَعَتَيْنِ»، فَخَرَجَ الْبَارِي 501/1 میں ہے: ”فِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنَ الْفَوَائِدِ أَنَّ الْخُطْبَةَ، أَمَّا يَمُرُّ فِي خُطْبَةٍ وَبَيْنَ الْأَحْكَامِ الْحَتَّاجِ إِلَيْهَا، اهـ اور صحیح مسلم 283 جلد 1 میں جابر بن سمرہ سے مروی ہے: **”قَالَ: «كَانَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُطْبَتَانِ يَخْلُسُ بَيْنَهُمَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، وَيَذْكُرُ النَّاسَ»**، امام نووی اس حدیث کے شرح میں فرماتے ہیں: **”لَا يَصُحُّ الْخُطْبَتَانِ إِلَّا بِحَمْدِ اللَّهِ تَعَالَى وَالصَّلَاةِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِمَا وَالْوَعظُ“** اور شوکانی نیل الاوطار میں 3 145 اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں: **”أَسْتَدِلُّ بِهِ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الْقِرَاءَةِ وَالْوَعظِ فِي الْخُطْبَةِ، وَقَدْ ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ إِلَى وَجُوبِ الْوَعظِ وَقِرَاءَةِ آيَةٍ،** اور سنن ابی داؤد مطبوعہ نوکشتور 1 159 میں جابر بن سمرہ سے مروی ہے: **”أَنَّكَ كَانَ لَا يُطِيلُ الْمَوْعِظَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، إِنَّمَا هِيَ كَلِمَاتٌ يَسِيرَاتٌ، 1 هـ، شوکانی نیل الاوطار 3 145 میں اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں: ”فِيهِ أَنَّ الْوَعظَ فِي الْخُطْبَةِ مَشْرُوعٌ“، اور صحیح مسلم 286/2 ام ہشام بنت حارثہ سے مروی ہے: **”«نَا حَفْظْتُ ق، إِلَّا مِنْ فِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ يَخْطُبُ بِهَا كُلَّ جُمُعَةٍ»**، 1 هـ امام نووی (6 161) اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں: **”قَالَ الْعُلَمَاءُ: سَبَبُ اخْتِيَارِهَا، أَنَّهَا مُشْتَمِلَةٌ عَلَى الْبَعثِ وَالْمَوْتِ، وَالْمَوْعِظَةِ الشَّدِيدِ، وَالزَّوْجِ الْأَكِيدَةِ، 1 هـ۔******

اور مشکوٰۃ شریف ص: 117 میں ابوسعید خدری سے مروی ہے: **”قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى إِلَى الْمَسْجِدِ فَيَقُولُ شَيْءٌ يَبْدَأُ بِهِ الصَّلَاةُ ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيَقُومُ مُقَابِلَ النَّاسِ وَالنَّاسُ جُلُوسٌ عَلَى صُفُوفِهِمْ فَيُعْظِمُهُمْ وَيُوصِيهِمْ وَيَأْمُرُهُمْ الْحَمْدُ مُتَّقٍ عَلَيْهِ، 118 میں جابر سے مروی ہے: ”عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: شَهِدْتُ الصَّلَاةَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَوْمٍ عِيدٍ، فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ قَامَ مُتَوَكِّلًا عَلَى بِلَالٍ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَوَعَّظَ النَّاسَ وَذَكَرَهُمْ وَخَفَّعَهُمْ عَلَى طَاعَتِهِ، ثُمَّ نَالَ وَمَضَى**



إِلَى النَّسَاءِ وَمَعَ بِلَالٍ، فَأَمَرَ بِنِ بِنْتِ بَنِي عَطْنٍ وَذَكَرَ بِنِ،، رواه النسائي.

اور علامہ ابن قیم زاد المعاد صحابہ نظام 1 121 میں فرماتے ہیں: ”وكان صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه في خطبته قواعد الاسلام وخصائصه،،: 1/111 میں فرماتے ہیں خصائص جمعہ کے بیان فرماتے ہیں: ”الثاني والعشرون: أنَّ فيهِ الخطبة التي يُقصدُ بها التَّناء على الله وتبجيله، والشَّهادة له بالوحدانيَّة ولرسوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالإنسانيَّة، وتذكير العباد بأنَّهم من بآبائه ونفسيَّة، ووحيهم بأنَّهم إلى الله وإلى جنابه، وشيهم عما يُفترَّبهم من سُخطه وناره، فَبِذَا هُوَ مُقْصِدُ الخطبة والاجتماع لِمَا 1 هـ.

اور فتح القدیر شرح ہدایہ چھاپہ نو لکھنؤ 1 26 میں ہے: ”سجدہ اللہ فی الأولى، ويشهد ويصلي عليه عليه السلام والصلوة ويعظ الناس،، 1 هـ اور ص: 260 میں ہے: ”قوله: لحصول المقصود، وهو الذكر والموعظة،، 1 هـ. اور رد المحتار چھاپہ دہلی 1 759 میں ہے: ”قوله: ويبدء أي قبل الخطبة الأولى بالتعوذ سراً، ثم سجد اللہ تعالیٰ والتناء عليه والشهادة بين والصلوة على النبي صلى الله عليه وسلم والوعظة والتذكير،، 1 هـ.

اور جامع الرموز شرح مختصر الوقایہ چھاپہ محمدی دہلی ص: 181 جزء اول میں ہے: ”فيبدء بالتعوذ سراً، ثم سجد اللہ، ثم يأتي بالشهادتين، ثم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم وآله وسلم، يعظ الناس،، 1 هـ. اور برجندی شرح مختصر الوقایہ چھاپہ نو لکھنؤ 1 172 میں ہے: ”وخطب خطبتين سجد في الأولى ويشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويعظ الناس،، 1 هـ اور اسی صفحہ میں ہے: ”وفي شرح الطحاوي السيرة في الخطبة، أن سجد اللہ ويثني عليه ويعظ الناس،، 1 هـ.

اور فتاویٰ قاضی خاں چھاپہ نو لکھنؤ 1 88 میں ہے: ”قال بعضهم: ما ذا الخطيب في حمد الله تعالى والتناء عليه والوعظ للناس، فليعلم الاستماع والانصات،، 1 هـ اور فتاویٰ سراجیہ چھاپہ نو لکھنؤ بر حاشیہ قاضی خان 1 103 میں ہے: ”لوخطب بالفارسية يحوز،، اور سفر السعادات اور اس کی شرح مطبوعہ کلکتہ ص: 267 میں ہے: ”و در خطبہ قواعد اسلام را بیان فرمودے و مہمات دین را تعلیم کردے و بذكر موت و تزهيد و در دنیا و ترغيب و در آخرت تذکیر نمودی،، 1 هـ اور ص: 260 میں خصائص جمعہ کے بیان میں ہے: ”خاصیت سی و دوم: اختصاص این روز است با اجتماع مومنان براں وعظ و تذکیر بطریق وجوب،، 1 هـ:

اور مولانا صدیق محمد حسن خاں دلیل الطالب ص: 374 میں فرماتے ہیں: ”اعلم أنَّ الخطبة المشروعة هي ما كان يعتاده - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - من ترغيب الناس وترهيبهم، فبِذَا فِي الْحَقِيقَةِ هُوَ رُوحُ الْخُطْبَةِ الَّذِي لَا جَلَّ شَرْعَت

وَأَمَّا اشترط الحمد لله، أو الصلاة على رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، أو قراءة شيء من القرآن فجميعه خارج عن معظم المقصود، من شرعية الخطبة، والاتفاق مثل ذلك في خطبة - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، لا يدل على أنه مقصود متحتم، وشرط لازم، ولا يثبت منصف أن معظم المقصود هو الوعظ دون ما يقع قبله من الحمد والصلاة عليه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وقد كان عرف العرب المستمر أن أحدهم إذا أراد أن يقوم مقاماً ويقول مقالاً، شرع بالتناء على الله والصلاة على رسوله، وما أحسن بذا وأولاه! ولكن ليس هو المقصود، بل المقصود ما بعده

والوعظ في خطبة الجمعة هو الذي يليه يساق الحديث، فإذا فعل الخطيب فعل الفضل المشروع، إلا أنه إذا قدم التناء على الله، [والصلاة] على رسوله، أو استطر في وعظ القوارع القرآنية كان أتم وأحسن،، 1 هـ اور بدور الأهل ص: 72 میں فرماتے ہیں: ”وخطبة مجرد موعظة است کہ بدان عباد اللہ اندار کند،، 1 هـ اور بھی اسی صفحہ میں ہے: ”وخطبة نبی مشتمل بر حمد و صلوة فی بود و و این استفتاح خطبة مقصود و مقدمہ از مقدماتش باشد و مقصود بالذات وعظ و تذکیر است نہ حمد و صلوة حاصل آنکہ روح خطبة موعظه حسنه است از قرآن باشد یا غیر آں،، اہ اور پنج المقبول من شرائع الرسول میں ہے: ”خطبة مجرد وعظ است،، اور عرف الحادی من جنان ہدی الحادی ص 43 میں ہے: ”و معظم مقصود و خطبة وعظ است بہ ترغيب و ترغيب،،.

هذا ما عندي والله أعلم بالصواب

فتاویٰ شیخ الحدیث مبارکپوری



جلد نمبر 1

صفحہ نمبر 396

محدث فتویٰ